

برائے فوری اجراء

سٹی میں فوڈ ٹرک فیسٹیول کے ساتھ ایمنیسیپیشن ڈے (یوم نجات) منایا رہا ہے

برامپٹن، آن (23 جولائی 2021) - سٹی آف برامپٹن آپ کو یکم اگست کو یوم نجات منانے کی دعوت دیتا ہے، جس کی اہمیت کو افریقی نژاد لوگوں کی غلامی کے خاتمے کی یاد منانے کے حوالے سے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس تقریب کا آغاز صبح 10 بجے کین ویلینز اسکوائر میں ذاتی طور پر پرچم کشائی کی تقریب سے ہو گا، جس کے بعد فوڈ ٹرک فیسٹیول منعقد کیا جائے اور دوپہر سے شام 8 بجے تک ایمنیسیپیشن پارک، 7599 ڈکسی روڈ میں موسیقی اور تفریحی پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ شرکت کرنے کے لیے پیشگی رجسٹریشن درکار ہے۔

سٹی آف برامپٹن کا **اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریسزم یونٹ** پاسنگ دی ٹارچ ایوارڈز متعارف کرائے گا، یہ خراج تحسین **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پیش کرنے کا ایک نیا پروگرام ہے جس کا مقصد سیاہ فام نوجوانوں اور اس مقصد کے فروغ کے لیے کام کرنے والی سرکردہ شخصیات کو اکٹھا کرنا ہے، جو معلومات کے اشتراک اور کامیابی کی راہ دکھانے کی ایک علامت ہے۔ پرچم کشائی کے بعد اونٹاریو کی قانون ساز اسمبلی میں منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون اور اس تقریب کی ایک کلیدی مقرر زانا اکانڈے، کین ویلینز اسکوائر میں ایوارڈ پروگرام متعارف کرائیں گی۔

پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کرنے یا فوڈ ٹرک فیسٹیول میں اپنی ٹیبل بک کرانے کے لیے، ملاحظہ کریں: brampton.ca/events

سٹی نے پہلی بار 2020 میں ڈیکسی 407 اسپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمنیسیپیشن پارک رکھتے ہوئے یوم آزادی کی اہمیت کو تسلیم کیا تھا، جس میں سوکر کی چھوٹی اور بڑی چیمپ اور کرکٹ کے میدان موجود ہیں۔ اس سال ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کیریبین ورثہ اور آزادی اور برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی خدمات کو تسلیم کریں اور فنون لطیفہ، ثقافت، خوراک اور کمیونٹی کے دن کے ساتھ اپنی خوبصورت اور متنوع حیثیت کی خوشیاں منائیں۔

اقتباسات

"برامپٹن کا متنوع پس منظر اور مختلف کمیونٹیز کا خوبصورت گلدستہ اس شہر کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے اور ہم اسی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ پچھلے سال سٹی کونسل نے یکم اگست کو برامپٹن میں یوم آزادی کے طور پر منانے اعلان کیا تھا اور سٹی کے ڈکسی 407 اسپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے آزادی پارک رکھ دیا تھا تاکہ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی جا سکے اور جب ہم برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے لیے ایک منصفانہ اور مساوی مواقع کے حامل مستقبل کی جانب گامزن ہوں، تو اپنی عظیم یادوں کو بھی زندہ رکھا جائے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"پچھلے سال کے دوران سٹی کے اینٹی بلیک ریسزم یونٹ نے برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ رابطے کرنے کے لیے انتہک محنت کی تھی تاکہ ہمارے موجودہ ماحول اور ترقی اور حمایت کے مواقع کے بارے میں ایک بامقصد بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یوم نجات ہمارے لیے برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ورثے اور ثقافت کو منانے اور اس حوالے سے مثبت بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پوری کمیونٹی کے ساتھ جڑنے کا ایک طریقہ ہے۔"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر، وارڈز 7 اور 8، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن جائے کار اور کمیونٹی، دونوں کے اندر تنوع، مساوات اور شمولیت کے عمل کو فروغ دینے کے لیے پُر عزم ہے۔ ہمارے اینٹی بلیک ریسزم یونٹ نے کمیونٹی میں اپنے آپ کو مستحکم کر لیا ہے اور برامپٹن میں ایک مثبت تبدیلی لانے میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اس جیسی تقریبات کی مدد سے ہم سیاہ فام کمیونٹی کے ورثے اور کمیونٹی کے مفاد میں بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ان کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، CAO، سٹی آف برامپٹن

"یہ کام انتہائی اہم ہے کیونکہ دنیا بھر میں نوجوان نسلیں آزادی کا عمل جاری رکھنے میں مشغول ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ یکم اگست کو ہم ان لوگوں کا احترام کرنا اپنی ترجیح بنا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے راستے ہموار کیے اور مستقبل کے رہنماؤں کو ترغیب دینے کے لیے اپنی وراثت کا استعمال کرتے ہیں۔ نسلوں کے درمیان فرق کو مٹانے کے لیے یہ یونٹ اب پاسنگ دی ٹارچ ایوارڈز متعارف کرا رہا ہے، جس میں سیاہ فام کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایسے کامیاب نوجوانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا جو کمیونٹی میں مثبت تبدیلی لا رہے ہیں۔"

گیورنٹھ چیپمین، سینئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca